



## سوال

(365) استاذ کا طالب علم کو استحقاق سے کم نمبر دینا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

بعض معلمات طالبات کو ان کی سالانہ کارکردگی جتنے وقت مناسب حق نہیں دیتیں وہ ایسا کرتے وقت اپنی پسندنا پسند کے تحت فیصلہ کرتی ہیں۔ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

استاذ کا طالب علم پر ظلم کرنا حرام ہے۔ اسے اس کے استحقاق کے مطابق پوزیشن نہ دینا یا اس کے استحقاق سے بڑھ کر خاص مقاصد کے پیش نظر اسے اچھی پوزیشن دینا حرام ہے۔ اسے عدل و انصاف اور برابری کا رویہ اپنانا چاہیے اور ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔۔۔۔۔ شیخ ابن جبرین۔۔۔۔۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ برائے خواتین

مختلف فتاویٰ جات، صفحہ: 371

محدث فتویٰ